


بچوں کے لئے بائبل
تحائف



گاٹل بادشاہ
سلیمان



تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: Lazarus
Alastair Paterson

کے مطابق: Ruth Klassen

ترجمہ کردہ: www.christian-translation.com

کی طرف سے تیار: Bible for Children
www.M1914.org

©2024 Bible for Children, Inc.

لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔



بادشاه داوود اوس خدایه سند اکھ عظیم انسان۔ تہندس دورِ حکومتس منز گوو
اسرائیل، بادشاه ساؤل سَنز سلطنتکہ کھوتہ ده گنہ بوڈ داوود اوس بڑیومت۔
تھوکت! بیہ بیمار! امی سَنز زندگی اُس اُخری پداوس پٹھ۔







داوود نيو نيچويو منز اكي نيچويو
ادونياہن وون اسرايل کين لکن ز سہ بنہ
ووني بادشاہ۔ حالانکہ تمہ سنہ ناوک معنی
چہ، "ميون مالک چہ خدا"۔ ادونياہ اوس نہ
رت شيخص۔ سہ اوس يژهان تختس زور تپہ
تراونی۔ تمس اس پتاه ز داوود چہ کمزور تہ
سہ بيکہ نہ امس ستي مقابلہ کرتہ۔ مگر
خدایس اوس بدلے منشہ۔




داوودنی آشیننی بت سبع آسی یژهان ز
سلیمان گژھ بادشاه بُنن - تمی ووَن
داوودس ادونیاه سُنْدین منصوبن متلق -
داوود اوس بپمار مگر تمی گری ساری
سردار یکجاه تہ بنوون سلیمان عوامس
برونہہ گنہ اسراییلک بادشاه -



سليمانس اوس نه ادونيآه بن كانه تكليف تكياز اسراييلكين لوكن اوس داوودس
پيٽه يقين - داوودن اوس لوكن وونمت ز خداين چه سليمان يهند بايت بحثيت
بادشاه زورمت - تمى پته كمى كال گزرتھ دراو داوودىمى دنياھ منز -



دنياه منز نيرنه برونهه كر داوون سليمانس ستي
خدايه سنز فرمانبرداري ته رت بادشاه بنس
متلق كته - داوودن وون پنس نيچوس
"خدايه سنز وته پيڻه پكه، يته ژتته سارسه
منز خوشحال بنكه يه ژ كرېكه" - يه اس رڙ
نصيحت! پته بوڻه سليمان مالي سندس
تختس پيڻه يعني داوودنس، ته تمى سنز
بادشاهي گييه مضبوطى سان قايم -



اڪه رآژ وُچِه سلیمانن خواب۔ تهنڊس خوابس
منز گوو خدا تُمس پیٹھ ظاهر تہ ووننس، "منگ

به کیاہ بخشے ژمے؟"
وَنؤ تو به کیاہ آسہو
مُونگُمَت؟ سلیمانن
مونگ رُت بادشاہ بننہ
خاطرِ گاٹہ جار۔



نوجوان بادشاه سنڌ عرض بوزته گؤو خدا

خوش - سليمانن يه مونگ ته روئن - پوز، خداين

گورس بڏ دولته ته عزت


دينوک ته وعده -



سليمانتي دانائي زانه نس لوگ نه لکن زياد وقتھ۔ اکہ دوہ آيہ ز ماجہ تيمس برونہہ
کن يمن اکہ زاشراوس۔ اکہ زنانہ وون، "راتھ کيتھ مؤد يمسن زنہ بچہ، تہ تمہ
بدلوو ميانس زند بچس ستی پئن مؤدمت بچہ"۔ دويمہ زنانہ وون،
"ہرگز نہ! مگر زند اکہ چہ ميون نيچہو، مؤدمت
چہ چون نيچہو"۔ ونو سا بادشاہ
کياہ ونہ کوسہ چہہ اصلی موج؟



پتہ وون بادشاہن، "مے دیو تلوار"۔ تمو آنی تلوار بادشاہس برونہہ کن۔ توہہ کیاہ
چھیو باسان بادشاہ کیاہ کرہے تلوار ستی؟



بادشاہن وون یمس زند شرس گرو ز حصہ اکھ دیو اُکس زنانہ تہ دویم حصہ
بیس - پتہ وون تمہ ماجہ یمی سُنڈ یہ زند شراوس، "میانہ آغہ، یہ زند شردیون
امی سے تہ مہ مار ہون۔"





مگر دویمہ زنانہ وون، "نہ روزنِ چون تہ نہ
میون، اَمس گروزِ حصہ۔"



آتی وۆن بادشاهن، "یہ زندِ شُر دہون
گوڈنچِ زنانہ۔ یہ چہِ اصلی موج۔" درسُ
اسرایلیو بوز یہ فیصلہ تہ بادشاہس
کورکھ سیٹھاہ عزتہ۔ تموزون زِ خدایہ
سُند گاٹجار چہُ اَمس منز۔




اسراييل كين لوكن اوس نه كانه عبادت گريته منز تم
خدایه سنز عبادت كرين - بيله داوودن اكه عبادت خانه
تعمير كرنك منصوبه بنايوو - خداین اوس وو نمت،
"چون نيچو گر ميانه ناو خاطر تمه گرگ تعمير -" اوكني
كور سليمانن اكه حاران كرن وول عبادت خانه



يروشلمس منز
تعمير كرن شروع -





یہ عبادت خانہ تعمیر کرنس
لگی ستھ وری۔ پوز سہ بوڈ دوہ
آو یئلہ ساری لوکھ جمع گیئہ یہ
بوزنہ خاطر ز سلیمان کتھ
پاٹھی گر




خداوندس کنُ یہ
عبادت خانہ مخصوص۔



حاران کُن دعائے خیریتہ دژ بادشاہن
تہ لُوکو خوشی سان ساسہ بزِ قربانی
تہ سال رود دۆن ہفتن جاری۔




امہ پتہ دیت خداین سلیمانس بیبہ دیدار
تہ دتتن تُمس تہ اسرأیلس توت تام برکتھ
دِنک وعدِ یوت تام تِم خداوند سَنز
فرمانبرداری کرین۔



دوکهچی گته چه یه زه، نه گری سلیمان ته نه اسرائیلکیو
لُکُو همیشه خدایه سنز فرمان برداری. بادشاهن کر واریاه زنانه
یه نه خداین یوژهمت اوس. انزو مشرک زنانو پھیتر تمی سند
دل بت پرستی کن. ته تمی سند دل رود نه تسندس خدایه
سند وفادار. یته پاڻھی امی سندس مائس داوود دل اوس.



بيٺه سلیمان خدایه سنڙ فرمان برداری ٻڌ موقعا ضایع ڪور، انڊیو عهد دارو منڙ اڪه
عهد دار یمہ سنڌ ناؤ یروباٺ اوس، تمس اوس اڪه عجیب تجرُبه۔ اکی نبین وون اُمس
خدا ڪر سلیمانس سلطنتس تقسیم ته یروباٺ ڪر باهو منڙ دهن قبیلن پڙه حکومت۔
یروباٺ ژول فوری طور مصر۔ تمی زون اگر سه یتہ ٿههریو، سلیمان ماٺ تس۔



اُخْرَسِ گُووِ سَلِيْمَانِ رَحْمَتِ حَقِّ - تَمَّ سِنْدِ
نِيچُو رَحْبَعَامِنِ، لَأْگِي لُوْکُن پِيْطُه سَلِيْمَانِي
کَهْوَتِي بَدْتَرِ تُيْکَسِ - دِهِيو قَبِيْلُو گُر بَغَاوَتِ -
تِي زُوْرکِه يِرُو بَامِ پَنِنِ سَرْدَارِ - سَلِيْمَانِي
عَظِيْمِ سَلْطَنَتِ گِيِي دُوْنِ حَصْنِ مَنَزَتِي
پَاْطِهِي تَقْسِيْمِ يِيْتِه پَاْطِهِي خَدَايِه سِنْدِي
نَبِيْنِ وَوْنَمَتِ اَوْسِ - خَدَا
دِيِي نِي نَافَرْمَانِي زَانِه سَاْطِه!



گاٹل بادشاہ سلیمان

خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

1 بادشاہ 12-1

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:

پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

